

METHOXYCHLOR	میکوکسی کلور	ICSC: 1306
CAS # 72-43-5 RTECS # KJ3675000 UN # EC # EINECS# 200-779-9 UN Hazard class:	دیگر نام: 1,1-(2,2,2-Trichloroethylidene)bis(4-methoxybenzene) 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-methoxyphenyl)ethane Dimethoxy-DDT فارمولہ: C ₁₆ H ₁₅ C ₁₃ O ₂ سامانی وزن: 345.7	
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانہ	بچاؤ	خطے کی قسم
پاؤڈر، الکول برداشت کرنے والی فوم، پانی کا سپرے، کاربن ڈائی آسایڈ	کھلے شعلے اور سگریٹ نوشی بختی سے منع میں۔	جلنے والا مادہ۔ ایسی مائع فارمولیشن میں نامیقیت محل (Solvent) شامل ہوں آئش گیر ہو سکتی ہیں۔ جلنے پر سوزش پیدا کرنے والے یا زبردیلے بھارات (یا گیمین) نارج ہوتے ہیں۔ آگ:
		دھاکہ:
	گرد کو پھیلنے سے بچائیں خفظان صحت پر بختی سے عملدرآمد کریں! عورتوں اور بچوں کو اثرات سے بچائیں	جسم میں داخلہ:
. تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں	لوکن ایگر اسٹ یا آلات تنفس استعمال کیں	. نگلنے کی علامات کے اندر دیکھیں سانس کے راستے:
خاب شدہ کپڑے تار میں پانی بھائیں پھر جلد کو پانی اور صابن سے دھوئیں	خفاظتی دستاںے استعمال کریں خفاظتی لباس استعمال کریں	جلد کے راستے:
پہلے کنجی منت نہ کر پانی سے ابھی طرح دھوئیں پھر ڈاٹر کے پاس لے جائیں۔	خفاظتی پچھے استعمال کریں یا آنکھوں کی خفاظت کے ساتھ آلات تنفس۔ استعمال کریں	آنکھوں میں پہنا:
قے دلائیں (صرف ہوش میں ہونے کی صورت میں)۔ پینے کے لیے وافر پانی دیں۔ طبی تبدیلی کا بندوبست کریں	کام کے دوران خوردن و نوش اور سگریٹ نوشی مت کریں کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں	نگلنے کی صورت میں:
پیک کرنا اور لیلیں لگانا:	بکھرنے کی صورت میں اقدامات:	
خوارک یا جانوروں کی فیڈ کے ساتھ باربرداری نہ کریں	گرے ہوئے مادے کو برتاؤ میں اکھتا کریں ضرورت ہو تو پہلے گلیا کر لیں تاکہ گردہ اٹھے اختیاط کے ساتھ بقیہ مادے کو اکھتا کریں۔ بھر اس کو محفوظ بجھے پر لے جائیں۔ اس کیمیکل کو ماتول میں داخل نہ ہونے دیں (غیر معمولی ذاتی تحفظ، ضرر رسان ذرات کے لئے P2 فلٹر والے ماسک کی ضرورت)۔	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات:	
خوارک اور فیڈ وغیرہ سے عیuded رکھیں ہوا رکھرے میں رکھیں۔ اس کو ابھی طرح بند رکھیں		
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

METHOXYCHLOR	بیٹوکسی کلور	ICSC: 1306
اہم معلومات		
جسم میں داغنے کے راستے: یہ مادہ جسم میں اس کے ذرات کے سانس میں بننے سے بلد کے راستے نگلنے پر بذب ہو سکتا ہے سانس کے راستے داغنے کے اثرات: 20 سنی گریڈ پر تجھیرانے نام ہے لیکن سپر کرنے یا بھیجنے پر خصوصاً پاؤڈر کی شکل میں ہوا میں ذرات کی مقدار خطرناک حد کو چھو سکتی ہے طویل مدت کے لیے جسم میں داغنے کے اثرات: زیادہ مقدار میں لگلنے پر یہ مادہ گردوں بگرا اور مرکزی عصبی نظام پر اثر انداز ہو سکتا ہے جانوروں پر تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے انسانوں کی قوت تولید پر نہریلے اثرات ہوتے ہیں۔	طبعی حالت: بے رنگ سے لے کر بلکل زرد قلبیں مخصوص بو کے ساتھ۔ کمیابی خطرات: یہ مادہ گرم کرنے پر اور جلانے پر تخلیل ہو جاتا ہے تیمبوں تجیدی عوامل کے ساتھ عمل کرتا ہے رہا اور پلاسٹک کو فتحان پہنچاتا ہے ہوا میں مقررہ حدود: .(TLV: 10 mg/m ³ (ACGIH 1998 MAK: 15 mg/m ³ ; III (1996) (1997): mg/m ³ : ppm :MAK	
طبعی خواص		
log pow کے طور پر اکٹانول مقابلہ پانی پارٹیشن کوفیشنس: 4.68-5.08	نقاط پگھلاو: [89] 20 سنی گریڈ کلثافت اضافی (بال مقابلہ پانی = 1): 1.4 g/m ³ پانی میں حل پذیری (گرام فی 100 مل لٹر): بالکل نہیں [very low] Kpa علاوہ 20 سنی گریڈ پر بخاراتی پریش:	نقاط پگھلاو: [89] سنی گریڈ
ماخولیاتی اعداد و شمار		
یہ مادہ آپی جانداروں کے لئے انتہائی زیبلا ہے۔ خوارک کے سلسلے میں انسانوں کے لئے اہم ہے کہ کسی کوئی میں اس کا ذخیرہ ہو سکتا ہے: غاص طور پر چھلیپاں پر سوانی معمول استعمال کے محل میں اس کو غارج نہ کریں۔		
نوٹس (Notes)		
تخلیل ہونے کا درجہ حرارت لیٹیچر میں موجود نہیں محل میں مقدار کے مطابق و تفہیں پر طبی معافینہ کیا جائے اگر فارمولیشن میں محل میں موجود ہوں تو ان کا ICSC 0034 for DDT میں موجود بعض محل اس کی طبعی اور زبر آلوگ کی خصوصیات میں تبہی کر دیتے ہیں [Maralate, Marlate, Metox, Prentox, Methoxicide] تجارتی نام میں اس کے علاوہ ICSC 0034 for DDT سے رجوع کریں		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
IPCS International Programme on Chemical Safety	    	Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999